

ACCESS for ELLs کیا ہے؟



ELL

انگریزی زبان سیکھنے والا، یا ELL، ایک ایسا طالب علم ہے جس کو دوسری کلاسوں کے علاوہ، انگریزی میں تدریس حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہر سال ELLs کا ٹیسٹ ہوتا ہے تا کہ اساتذہ کو ان کی زبان کی مہارت کو سمجھنے میں مدد ملے، لیکن آپ کو زبان کی مدد کو قبول کرنے یا مسترد کرنے کا حق ہے۔

زبان کی مہارت

زبان کی مہارت کا لیول اس بات کی ایک پیمائش ہے کہ زبان کی مہارت کے حصول میں طلباء کی پیش رفت کیا ہے۔ جب طلبا زبان کی مہارت کے اعلیٰ لیول تک پہنچ جاتے ہیں تو، انہیں زبان کی مدد کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں ہوتی ہے۔

ACCESS for ELLs انگریزی زبان میں مہارت کا ایک ٹیسٹ ہے جو طلباء کی انگریزی زبان کی تعلیمی مہارتوں کی پیمائش کرتا ہے۔

آپ کے بچے کی شناخت ELL کے طور پر ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے کو دوسری کلاس لینے کے علاوہ انگریزی میں بھی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ELL والے طلباء ہر سال انگریزی زبان کی مہارت کا ٹیسٹ دیتے ہیں۔

ٹیسٹ سے اساتذہ کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ آیا طلباء کے پاس زبان کی وہ مہارت ہے جو کلاس روم میں مکمل طور پر حصہ لینے کے لیے درکار ہے۔ آپ کے بچے کے اساتذہ اس وقت ACCESS for ELLs ٹیسٹ کے اسکور کا استعمال کرتے ہیں جب وہ یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو کیسے بہترین طریقے سے پڑھایا جائے۔

ٹیسٹ اسکور اساتذہ کو تعلیمی انگریزی سیکھنے میں آپ کے بچے کی پیشرفت کا پتہ لگانے میں مدد کرتے ہیں اور اسکولوں کو یہ فیصلہ کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں کہ انگریزی زبان کی کون سی امدادی خدمات فراہم کرنی ہے۔ آپ اسکول میں اپنے بچے کی حمایت میں بات کرنے کے لیے ٹیسٹ کی معلومات کا استعمال کرسکتے ہیں۔



ACCESS for ELLs تشخیص

- ACCESS for ELLs کاغذ اور پنسل یا کمپیوٹر پر مبنی فارمیٹ میں دستیاب ہے۔
- کنڈرگارٹن ACCESS for ELLs میں کم عمر متعلمین کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے کہانیوں اور سرگرمیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔
- Alternate ACCESS for ELLs ایک ٹیسٹ ہے جسے سپورٹ ٹیمیں انتہائی اہم تعلیمی معذوریوں والے طلباء کے لیے استعمال کرنے کا انتخاب کرسکتی ہیں۔ یہ اضافی مدد کی پیش کش کرتا ہے اور طلباء کو ٹیسٹ آئٹم کا جواب دینے کے لیے متعدد مواقع فراہم کرتا ہے۔

اساتذہ سے اپنے بچے کے اسکول میں ACCESS for ELLs ٹیسٹنگ کے منصوبوں کے بارے میں بات کریں۔

آپ کے بچے کو ACCESS for ELLs کے لیے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹیسٹ طلباء کے لیے ان تمام طریقوں کا مظاہرہ کرنے کا ایک موقع ہے کہ وہ انگریزی سمجھتے ہیں اور اس میں مواصلات کرسکتے ہیں۔

ٹیسٹ کے دن کے لیے تیار کرنے کی خاطر اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ بھرپور نیند حاصل کرے اور ناشتہ کھائے۔

اپنے بچے کے اساتذہ سے اس بارے میں بات کریں کہ آپ کو ٹیسٹ اسکور کب ملے گا، آپ کے بچے کا اسکول ان اسکور کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اور جب آپ کے بچے میں انگریزی زبان کی مہارت پیدا ہو جاتی ہے تو زبان کی مدد میں کس طرح تبدیلی آتی ہے۔

- میرا بچہ کب ACCESS for ELLs ٹیسٹ دے گا؟
- مجھے اپنے بچے کے ACCESS for ELLs ٹیسٹ اسکور کب حاصل ہوں گے؟
- اکیڈمک انگریزی میں میرے بچے کی پیشرفت میں مدد کرنے کے لیے ٹیسٹ اسکور کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے؟
- اس بات کا فیصلہ آپ کیسے کرتے ہیں کہ کب میرا بچہ زبان کی مدد لینا بند کرے؟

**سوالات جو آپ
پوچھ سکتے ہیں**